



مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور محبوب تاکم خیر تو دونوں ہی میں

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: "مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور محبوب تاکم خیر تو دونوں ہی میں ہے جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس کی حرص رکھو اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا، تو ایسا ہوجاتا بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیوں کہ "اگر" شیطان کے عمل دخل کا دروازہ کھول دیتا ہے"

[صحیح] [رواہ مسلم]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ویسے تو ہر مومن میں خیر ہوتی ہے، لیکن ایمان، عزیمت اور مال وغیرہ طاقت کے پلموؤں میں قوی مومن اللہ عز و جل کے یہاں کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ایسے اسباب اختیار کرنے کی وصیت فرمائی جن سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو سکے ساتھ ہی اللہ پر اعتماد، اس سے مدد مانگنے کا جذبہ اور اس پر بھروسہ شامل حال ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی، سستی اور دونوں جہانوں میں نفع پہنچانے والی چیزوں سے پیچھے رہنے سے منع فرمایا ہے جب مومن پوری تندہی سے عمل کرے، اسباب اختیار کرے، اللہ سے مدد اور خیر طلب کرتا رہے، تو اس کے بعد بس اتنا بچ جاتا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ جو کرے گا، وہ خیر ہی ہوگا اس کے بعد اگر کوئی مصیبت لاحق ہو، تو یہ نہ کہے: "اگر میں ایسا کر لیتا، تو ایسا اور ایسا ہوتا" "کیوں کہ لفظ (اگر) شیطان کے عمل کے راستے کھول دیتا ہے" یعنی انسان تقدیر پر اعتراض اور فوت شدہ چیز پر افسوس کرنے لگتا ہے انسان کو راضی بہ رضا رہنے ہوتی ہے اور خود سپردگی کا ثبوت دیتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہیے: "یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے" لہذا جو کچھ ہوا، وہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہوا کیوں کہ وہ جو چاہتا ہے، کر گزرتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5493>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

